



سوال

(314) طلاق شوہر کا حق ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اسلامی شریعت سے یہ بات ثابت ہے کہ طلاق شوہر کا حق ہے لیکن جمہور علماء کا جو یہ مذہب ہے کہ طلاق کا حق بیوی کو بھی سونپا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے یا یہ حق کسی وکیل کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ شوہر کسی کو یہ حق تفویض کر دے کہ وہ اس کی طرف سے اس کی بیوی کو طلاق دے، میرا سوال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ کیا یہ حکم نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آدمی طلاق کا حق اپنی بیوی یا کسی اور شخص کے سپرد کر سکتا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عورت یا کسی اور شخص کو طلاق کے لئے وکیل بنانے کے بارے میں مجھے نبی اکرم ﷺ کی کوئی حدیث معلوم نہیں ہے لیکن علماء نے یہ مسئلہ کتاب و سنت کے ان دلائل سے اخذ کیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مالی حقوق وغیرہ میں کسی سمجھدار آدمی کو وکیل بنانا جائز ہے۔

طلاق دینا شوہر کا حق ہے لیکن اگر وہ طلاق کا یہ حق اپنی بیوی یا کسی ایسے شخص کو سونپ دے جس کی طرف سے وکالت (سپردگی) کی نسبت صحیح ہو تو اس میں شرعی قاعدہ پر عمل کے پیش نظر کوئی حرج نہیں لیکن شوہر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وکیل کو یہ حق دے کہ وہ اٹھی تینوں طلاقیں دے دے کیونکہ اٹھی تین طلاقیں دینا خود شوہر کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا وکیل کے لئے یہ بالاولیٰ جائز نہیں ہوگا، چنانچہ امام نسائی نے جید سند کے ساتھ محمود بن لبید کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی ﷺ کی خدمت میں جب یہ عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں اٹھی دے دی ہیں تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا:

((أیلعب بکتاب اللہ وأنا بین أظهرکم)) (سنن النسائی)

”کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا (مذاق کیا) جا رہا ہے حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔“

اور صحیحین میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب طلاق کے متعلق ان سے پوچھا تو فرمایا:

((أمانت طلقینا لئلا نقصد عصیت ربک فیما أمرک بہ من طلاق امرئک)) (صحیح مسلم)

”آپ نے جو اسے تینوں طلاقیں اٹھی دے دی ہیں تو بیوی کے طلاق دینے کے بارے میں تو نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔“



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى اسلامية

كتاب الطلاق : جلد 3 صفحہ 295

محدث فتوى